

रिٹائرمنٹ تعلیم اور آگاہی پروگرام

پینشن فنڈ ریگولیٹری اینڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی



مالی پریشانیوں سے آزادی پائیں۔
فوائد حاصل کریں

فہرست

2	ریٹائرمنٹ کی سمجھ	1
7	ذہن میں رکھنے کے عوامل	2
11	پینشن مصنوعات کی خصوصیات: کلیدی تحفظات	3
15	نیشنل پینشن سسٹم کا جادو	4
25	اٹل پینشن یوجنا کی طاقت	5
29	بعد کا لفظ	
30	فرہنگ	

ہیلو. میرا نام پروفیسر منی رام ہے۔

مجھے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی اور بچت کے بارے میں جاننے میں دلچسپی دیکھ کر خوشی ہوئی ہے۔ میں آج آپ کے ساتھ جو کچھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس کا اطلاق 18 سال کے ساتھ ساتھ 70 سال کے کسی فرد پر بھی ہوتا ہے۔



دستبرداری

اس کتابچے میں موجود معلومات صرف مثالی، معلوماتی اور تعلیمی مقاصد کے لیے ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ PFRDA کے خیالات یا آراء کی نمائندگی کرے۔ PFRDA کتابچہ میں کٹینٹ کی درستگی، قابل اطلاق، فٹنس، یا مکمل ہونے کے حوالے سے کوئی نمائندگی یا وارنٹی نہیں دیتا ہے۔

پہلا ایڈیشن مئی 2022ء۔ ری پروڈکشن کی اجازت ہے بشرطیکہ ماخذ کو تسلیم کیا جائے۔



سبق 01 ریٹائرمنٹ کی سمجھ

اپنی آنکھیں بند کریں اور ایک ایسے وقت کا تصور کریں جب آپ مزید کام نہیں کر رہے ہوں۔ کیا دیکھا؟

کیا آپ اپنے آپ کو آرام کرتے، اپنا وقت سکون سے گزارتے، اپنے بچوں یا پوتے پوتیوں سے ملنے اور چھٹیاں گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں



میرے دوستوں، آپ کی زندگی کا وہ مرحلہ، جب آپ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی جمع شدہ بچت پر زندگی گزارتے ہیں تو اسے ریٹائرمنٹ کہتے ہیں۔

یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس کے لیے آپ کو کافی بچت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ وہ زندگی گزار سکیں جس کا آپ نے ابھی تصور کیا تھا۔

علاج کے
خرچے



اپنا گھر چلانا



تفریحی سرگرمیاں
اور چھٹیاں



آپ کی اور
آپ کے فیملی
کی ضروریات



آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، آپ کو ان کے لیے کافی رقم کی ضرورت ہوگی۔

یہ ممکن ہے اگر آپ اپنی آزادی - مالی مجبوریوں اور پریشانیوں سے آزادی - اپنی کام کی زندگی کے ابتدائی مراحل میں کمائیں۔

جس کا مطلب ہے، اب وقت آگیا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ کی ضروریات کے لیے ابتدائی کارروائی کریں۔

کیا آپ تیار ہیں؟

اپنی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کرنا


تو آئیے اس بات کا اندازہ لگائیں کہ آپ کے خیال میں آج کی اوسط متوقع عمر کیا ہے۔

کوئی؟ ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر آپ کے ریٹائر ہونے کے بعد کئی سالوں تک زندہ رہیں گے کیونکہ صحت کی دیکھ بھال کی ترقی کے ساتھ متوقع عمر میں اضافہ ہوا ہے۔

اپنی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کرنے کا مطلب ہے کافی بچت کرنا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آپ اپنی ساری زندگی اپنی ضروریات کو پورا کرتے رہ سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، یہ اس بات کا تعین کرنے کا عمل ہے کہ آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آرام سے زندگی گزارنے کے لیے کتنی رقم درکار ہوگی۔

اس کے لیے، آپ کو یہ بھی معلوم کرنا پڑے گا کہ آپ کے سنہرے سالوں تک پہنچنے میں کتنا وقت باقی ہے۔

ہندوستان میں، آج اوسط شخص 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کے بعد 20 سال سے زیادہ جیتا ہے۔



اس لیے آپ کو ریٹائرمنٹ میں اپنی روزمرہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی فنڈز کی ضرورت ہوگی۔

کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ تاہم، اگر آپ ابھی منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو بعد میں پیسے ختم ہونے کے امکانات کم ہیں۔

لیکن مناسب منصوبہ بندی کے بغیر، آپ کو ریٹائرمنٹ کی کم دولت مل سکتی ہے۔ جس کا مطلب ہے، آپ کے پاس اپنے ماہانہ اخراجات کا انتظام کرنے کے لیے اتنی رقم نہیں ہوگی۔ ایسی صورت حال آپ کو دوبارہ ملازمت حاصل

تو آج ہی اپنی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بنائیں اور کل اپنی آزادی حاصل کریں!



سب کے لیے پینشن

ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ بے فکر آرام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس آرام دہ زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے کافی فنڈز ہوں گے۔

تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ پلاننگ میں آپ کی بہترین شرط کیا ہے؟ جواب آپ کے خیال سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ یہ ایک لفظ ہے - پینشن۔ ہاں، پینشن آپ کی ریٹائرمنٹ کے سالوں کے لیے روزی روٹی ہے۔



پینشن آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ضروریات اور خوابوں کا خیال رکھنے دیتی ہے



پینشن ان سالوں کے لیے رکھی گئی رقم کے تالاب سے آتی ہے جن میں آپ کام نہیں کرتے ہیں



پینشن کے ساتھ، آپ کو ضمانت شدہ، مقررہ ماہانہ رقم ملتی ہے

لیکن کیا آپ کے خیال میں پینشن صرف سرکاری ملازمین کے لیے ہے؟ یا پرائیویٹ کمپنیوں میں ملازم اپنے ساتھیوں کے لیے؟ ایسا سوچنا غلطی ہوگی۔

میرے پیارے دوستو، سب کو پینشن مل سکتی ہے - یہاں تک کہ آپ کو بھی۔




جلد شروع کریں، مزید بچت کریں

جتنی جلدی آپ شروع کریں گے، اتنی ہی زیادہ ریٹائرمنٹ دولت (ذہنی سکون) آپ کے سنہری سالوں میں ہوگی۔

آپ کے خیال میں آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کب شروع کرنی چاہیے؟ ابھی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا ہے۔

آپ 18 سے 70 سال کے درمیان کسی بھی عمر میں اپنی ریٹائرمنٹ کا منصوبہ بنا سکتے ہیں۔



میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔

آپ کی موجودہ عمر = 25 سال
ماہانہ اخراجات کی قیمت = 10,000 روپے
آپ کی ریٹائرمنٹ کی عمر = 60 سال
عمر جس تک آپ منصوبہ بنانا چاہتے ہیں = 80 سال

مفروضے

افراط زر = 5%
پینشن سرمایہ کاری پر واپسی = 10%

یہاں کچھ منظرنامے ہیں جو میں نے مختلف عمروں کے لیے رکھے ہیں۔ آپ کو ماہانہ اخراجات کی ہر افراط زر سے ایڈجسٹ شدہ قیمت، ماہانہ بنیادوں پر سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت کی رقم اور 60 سال میں مطلوبہ ریٹائرمنٹ دولت مل جائے گی۔

عمر	25 (ریٹائرمنٹ میں 35 سال باقی ہے)	30 (ریٹائرمنٹ میں 30 سال باقی ہے)	45 (ریٹائرمنٹ میں 15 سال باقی ہے)
60 کی عمر میں اخراجات کی قیمت	55,160	43,219	20,789
ہر ماہ سرمایہ کاری کی جانے والی رقم	2,236	2,942	7,720
60 کی عمر میں درکار کارپس	85 لاکھ	67 لاکھ	32 لاکھ



جلد شروع کریں اور کئی سالوں سے اپنی پینشن کے لیے بچت کریں۔

اس طرح، آپ کو بعد کے سالوں میں آرام ملے گا - چاہے آپ جلد ریٹائر ہونے کا فیصلہ کریں۔



ریٹائرمنٹ کی ضروریات کے لیے ابتدائی کارروائی کریں اور مالی رکاوٹوں سے آزادی حاصل کریں۔



آپ کو پینشن مل سکتی ہے چاہے آپ سرکاری یا نجی کمپنی کے ملازم نہ ہوں۔



جلد بچت شروع کریں تاکہ آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ کی دولت کو جمع کرنے اور کمپاؤنڈنگ کے اثر سے لطف اندوز ہونے کے لیے کئی سال مل جائیں۔ ایسا کرنے سے، آپ اپنی ریٹائرڈ زندگی میں آرام سے رہیں گے۔



اپنا NPS اکاؤنٹ آن لائن کھولیں www.npstrust.org.in/content/open-your-nps-account-online



سبق 2

ذہن میں رکھنے کے عوامل



ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کے لیے آپ کو کچھ اہم عوامل پر غور کرنا چاہیے جیسے

- آپ کب ریٹائر ہونا چاہتے ہیں؟
- ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو کتنی رقم درکار ہوگی؟
- کیا آپ جلد ریٹائر ہونے کا متحمل ہوسکتے ہیں؟
- جب آپ کام کرنا چھوڑ دیں گے تو آپ آمدنی کے مستحکم بہاؤ کو کیسے یقینی بنائیں گے؟

مجھے وضاحت کرنے کی اجازت دیں۔

1. پہلے نقطہ پر آتے ہیں — آپ کب ریٹائر ہونا چاہتے ہیں؟


کیا آپ مزید 10 سال کام کرنا چاہتے ہیں؟ 20 سال؟ 30 سال؟ یا شاید اس سے بھی آگے؟ یاد رکھیں، کسی کے 80 سال سے زیادہ زندہ رہنے کی امید ہے۔ لہذا آپ جتنی جلدی ریٹائر ہوں گے، اتنی ہی طویل مدت ہوگی جس کے لیے آپ کو پینشن کی ضرورت ہوگی۔

2. دوسرا نکتہ اس بارے میں ہے کہ — ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ہر ماہ کتنی رقم درکار ہوگی؟

• یہ خوراک، کپڑوں اور ادویات کے لیے آپ کے روزمرہ کے اخراجات پر مبنی ہوگا۔ کچھ اخراجات جو فی الحال موجود ہیں ان کی نوعیت بدل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر، اسکول کی فیس کو صحت کی دیکھ بھال کے اخراجات سے بدلا جا سکتا ہے۔

• غور کرنے کا ایک اہم عنصر افراط زر ہے۔ میں اسے ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کہے، آج آپ ₹50 میں 1 کلو چاول خریدتے ہیں۔ اب سے 10 سالوں میں، 5% مہنگائی کے ساتھ، اس کی لاگت آپ کو ₹75 ہوگی۔ اگر آپ اپنی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی میں افراط زر کو شامل نہیں کرتے ہیں تو پینشن میں کمی کا تصور کریں۔

اگر آپ کی عمر آج 30 سال ہے تو آپ کی ریٹائرمنٹ کے وقت یہ حساب کیا نظر آئے گا۔





اگر آپ چاہتے ہیں کہ منافع مہنگائی کو مات دے تو آپ کو اپنی سرمایہ کاری کا انتخاب دانشمندی سے کرنا چاہیے۔ مختلف سرمایہ کاری کے اختیارات سے وابستہ خطرات اور منافع کو سمجھیں۔

کہو، آپ پر ماہ 500 ₹ کی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ 30 سال کے اختتام پر آپ کی پینشن کی سرمایہ کاری پر متوقع منافع ہر قسم کی سرمایہ کاری کے معاملے میں مختلف ہوگا۔

فکسڈ ریٹرن کی سرمایہ کاری جیسے کہ بینک فکسڈ ڈپازٹس زیادہ محفوظ ہیں لیکن مارکیٹ سے منسلک سرمایہ کاری کے مقابلے کم منافع دیتے ہیں۔

صرف 6% سالانہ پر فکسڈ ریٹرن میں سرمایہ کاری کرنے سے آپ کو 5,00,000 ₹ ملیں گے۔ ایکویٹی میں 12% سالانہ کی سرمایہ کاری کے ساتھ، آپ کے پاس 17,47,482 ₹ کا ریٹائرمنٹ فنڈ ہے۔

اب آپ ان عوامل کو جانتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن آپ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کیسے نیچے جائیں گے؟ تفصیلات کے لیے پڑھنا جاری رکھیں۔



موجودہ عمر = 30 سال



موجودہ اخراجات = 10,000 روپے ماہانہ



60 سال کی عمر میں ریٹائر ہونا اور 80 سال کی عمر تک منصوبہ بندی کرنا



مہنگائی = 5%



ریٹائرمنٹ پر مہنگائی کے حسابی اخراجات کی قیمت = 43,000 ₹ ماہانہ



اخراجات کے لیے درکار رقم میں ماہانہ کمی اگر مہنگائی کا حساب نہیں ہے = 33,000 ₹



آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کرتے وقت مہنگائی کو کتنا اہم سمجھنا ہے۔

3. اس بات کا جواب دینے کے لیے کہ آیا آپ جلد ریٹائر ہونے کا متحمل ہو سکتے ہیں، آپ کو ریٹائر ہونے پر آپ کو کتنی رقم درکار ہے۔

اسی مثال کے ساتھ جاری رکھتے ہے۔

آپ کی عمر 30 سال ہے۔



آپ کے موجودہ ماہانہ اخراجات 10,000 ₹ ہیں۔



مہنگائی 5%



آپ کی پینشن کی سرمایہ کاری پر منافع 10% ہے



آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچت کم از کم اس وقت تک رہے جب تک آپ 80 سال کے نہ ہوں۔



اگر آپ 60 سال تک کام کرتے ہیں، تو آپ کو ماہانہ 2,942 ₹ کا تعاون کرنا ہوگا۔



لیکن اگر آپ 50 سال کی عمر میں ریٹائر ہونے کے خواہاں ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ بچت کرنی ہوگی۔ یعنی 6,660 ₹ ماہانہ۔



4. آپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آمدنی کے مستحکم اور مناسب بہاؤ کو یقینی بنانے کے لیے، آپ کو ایک اہم عنصر یاد رکھنا ہوگا جو آپ کی پینشن کی سرمایہ کاری پر واپسی ہے۔

اپنا ریٹائرمنٹ پلان بنانا

ٹھیک ہے، آئیے آپ کا ریٹائرمنٹ
پلان بناتے ہیں۔ اس کے بارے میں جانے کے
چند طریقے ہیں۔


1. سب سے پہلے، آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آپ کو
اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے کتنی رقم بچانے کی ضرورت
ہوگی۔ حیرت ہے کہ یہ کیسے کریں؟ یہاں یہ ہے کہ
ریٹائرمنٹ کیلکولیٹر کیسا لگتا ہے۔



- آپ اپنی مطلوبہ ماہانہ پنشن کا فیصلہ
کر سکتے ہیں۔
- کیلکولیٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی پنشن
کی رقم کی بنیاد پر کتنا حصہ ڈالنا ہے۔
- آپ اس لنک پر ریٹائرمنٹ کیلکولیٹر تلاش
کر سکتے ہیں

[www.npstrust.org.in/
content/pension-calculator](http://www.npstrust.org.in/content/pension-calculator)

یہ ٹیبل آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کو اپنی عمر کے مطابق ہر ماہ کتنی رقم بچانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے ریٹائر ہونے تک آپ
کے پاس کافی بڑا فنڈ موجود ہو۔





2. اگلا، آپ کو اپنی موجودہ صورتحال کا اندازہ لگانا ہوگا۔

- اس بات پر غور کریں کہ آپ اس وقت جو پیسے کھاتے ہیں اس سے آپ اپنی عمر میں کتنی بچت کر سکتے ہیں۔
- بچت شروع کریں۔ اگر رقم کم ہے تو پریشان نہ ہوں۔ جب آپ کے پاس پیسے ہوں تو بعد میں مزید بچت کریں۔
- ان خطرات کا اندازہ لگائیں جو آپ ابھی لے سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے انعامات یا پرخطر سرمایہ کاری کے ساتھ محفوظ سرمایہ کاری کا انتخاب کر سکتے ہیں جو بڑی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔

3. آخر میں، پینشن کے مختلف منصوبے دریافت کریں۔

- چیک کریں کہ آیا منصوبہ پینشن فراہم کرتا ہے (NPS)، انشورنس اور دیگر)
- چیک کریں کہ آیا منصوبہ آپ کو ضمانت شدہ پینشن حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔
- معلوم کریں کہ آپ کا پینشن پلان کن اثاثوں کی کلاسوں میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔

ایک بار جب آپ دستیاب منصوبوں کی مختلف اقسام کا جائزہ لے لیں اور اس میں شامل مالی فوائد اور خطرات کو سمجھ لیں تو اپنا فیصلہ کریں۔ اس کے علاوہ، میں ہمیشہ رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کا سینٹر نمبر 1800110708 اور 1800110069 پر مجھ سے، اپنے PFRDA رپورٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ NPS اور APY سے متعلقہ سوالات کے لیے بالترتیب 1800222080 اور 18008891030 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔

منی رام منتر

آپ کا ریٹائرمنٹ پلان بنانا اس بات کو سمجھنے سے شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنے تخمینی اخراجات اور موجودہ عمر کی بنیاد پر کتنی بچت کر سکتے ہیں۔



اپنی پینشن کی سرمایہ کاری کے لیے آپ کے پاس موجود اختیارات کا پتہ لگائیں۔



مختلف اختیارات کے لیے خطرات اور واپسی کو سمجھیں۔



سبق 3

پینشن مصنوعات کی خصوصیات: کلیدی تحفظات

اب آپ ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کرتے وقت مہنگائی کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ مہنگائی پر جیتنے کے لیے آپ کے پیسے کو تیزی سے بڑھنا ہوگا۔



مارکیٹ میں بہت ساری مصنوعات کی وجہ سے، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کون سا پروڈکٹ بہترین ہے۔ باخبر فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے، مجھے بنیادی باتوں پر بات کرنے دیں - میں مالی منافع کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔

2. دوسرا، اپنے پینشن پلان کے انتظام کی لاگت کا حساب لگائیں۔

- زیادہ اخراجات کا مطلب ہے کم منافع - یاد رکھیں!
- لاگتیں آپ کی سرمایہ کاری کے منافع کو کھاتی ہیں، لہذا کوشش کریں اور کم لاگت والی سرمایہ کاری تلاش کریں

1. سب سے پہلے، اس بات کی نشاندہی کریں کہ آپ کے سرمایہ کاری کے آپشن کو کس حد تک منظم کیا گیا ہے

- ضوابط اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کی رقم کی سرمایہ کاری ذمہ داری کے ساتھ کی گئی ہے
- آپ کی سرمایہ کاری ریگولیٹر کی طرف سے جاری کردہ مصنوعات کے رہنما خطوط کے مطابق کی جاتی ہے



5. اس کے بعد، جانیں کہ پلان شروع سے اور پچھلے پانچ سے سات سالوں میں کیسا رہا ہے۔

• ریٹرن کو مستقل ہونا چاہیے

• ریٹرن ایک سال کم اور اگلے سال زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

6. اور آخر میں، چیک کریں کہ آیا پینشن پلان آن لائن خدمات فراہم کرتا ہے۔

مجھے آن لائن خدمات کی اہمیت پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی آج کل آن لائن ہونے والی چیزوں کے ساتھ کتنی آسان ہے۔

3. تیسرا، چیک کریں کہ پینشن پلان کتنا شفاف ہے۔

اگر پینشن پلان آپ کو دکھاتا ہے کہ چارجز کیا ہیں اور پینشن کے حصہ کی سرمایہ کاری کس طرح کی جاتی ہے، تو فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔

4. چوتھا، معلوم کریں کہ کیا پینشن پلان سروس ڈیلیوری پیش کرتا ہے اور شکایات کو دور کرتا ہے۔

• اس کے پاس آپ کی شکایات پر غور کرنے کا طریقہ ہے - اور یہ جلد اور فیصلہ کن طریقے سے کیا جاتا ہے۔

• اس کے پاس ایک آسان مواصلاتی چینل ہونا چاہیے جہاں آپ کو ضرورت پڑنے پر کوئی حل فراہم کرنے کے لیے دستیاب ہو۔

ایک بار جب آپ ان اہم عوامل پر غور کر لیتے ہیں، تو پینشن کی صحیح سرمایہ کاری کا انتخاب کرنا آسان ہو جاتا ہے۔



ریٹائرمنٹ کے لئے سرمایہ کاری کے اختیارات

طریقہ کار کو درج کیا ہے۔ جو بھی آپ کے لیے بہترین کام کرتا ہے وہی ہے جس کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے۔

ان منصوبوں کی کچھ نمایاں خصوصیات پر ایک نظر ڈالیں۔

سرمایہ کاری کے صحیح آپشن کو منتخب کرنے کے لیے بہت سوچ بچار اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور، بہت زیادہ الجھن بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں یہاں ہوں۔

آپ نیشنل پینشن سسٹم (NPS)، اٹل پینشن یوجنا (APY)، پبلک پراویڈنٹ فنڈ (PPF)، میوچل فنڈز اور انشورنس کمپنیوں اور میوچل فنڈز سے پینشن اسکیموں میں سے انتخاب کرسکتے ہیں۔ میں نے آپ کی سمجھ کے لیے ہر ایک کے

انسورنس کمپنیوں سے پینشن سکیم	میوچل فنڈ	پبلک پروویڈنٹ فنڈ (PPF)	اٹل پینشن یوجنا (APY)	نیشنل پینشن سسٹم (NPS)	کہاں سرمایہ کاری کرتا ہے۔
اکویٹی/بانڈ	اکویٹی/بانڈ	بانڈ اور دیگر	اکویٹی/بانڈ	اکویٹی/بانڈ	فکسڈ ریٹرن
نہیں	نہیں	ہاں	پینشن کی رقم کی ضمانت ہے	نہیں	سرمایہ کار کی لاگت
>5%	2-1%	صفر	دستیاب نہیں	0.26-0.3%	فائدے
<ol style="list-style-type: none"> 1. لائٹ کور کے ساتھ آتا ہے 2. سیکشن 80C کے تحت ٹیکس کا فائدہ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. کوئی لاک ان پیریڈ نہیں؛ ایگزٹ چارجز لگائے جاتے ہیں۔ 2. منتخب کرنے کے لیے مختلف قسم کی اسکیمیں 3. سیکشن 80C کے تحت ٹیکس کا فائدہ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. پورٹیبیل 2. صرف یکمشت فائدہ 3. فکسڈ ریٹرن 4. سیکشن 80C کے تحت ٹیکس کا فائدہ 5. قبل از وقت بندش ممکن ہے، شرائط کے ساتھ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. قبل از وقت بندش ممکن ہے، شرائط کے ساتھ 2. شراکت کی بنیاد پر پینشن کی مقررہ رقم 3. سیکشن 80CCD (1B) کے تحت شراکت کے لیے ٹیکس فوائد 	<ol style="list-style-type: none"> 1. پورٹیبیل 2. کم قیمت 3. سیکشن 80C کے تحت گئے تعاون اور سیکشن 80CCD (1B) کے تحت خصوصی فوائد حاصل کرنے کے لیے ٹیکس فائدہ حاصل کیا جا سکتے ہیں۔ 4. یکمشت + باقاعدہ پینشن 5. شرائط کے ساتھ، نکاسی کا فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ 6. قبل از وقت بندش ممکن ہے۔ 7. واپسی ٹیکس سے پاک ہے۔ 8. سالانہ وظیفہ خریدنے پر کوئی جی ایس ٹی نہیں 	نقصانات
آپ کو ہاتھ میں ملنے والی رقم قابل ٹیکس ہے۔	<ol style="list-style-type: none"> 1. مہم - منتخب کرنے کے لیے بہت زیادہ فنڈز 2. فنڈز کی نگرانی کرنی ہوگی۔ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 سال کی کم از کم لاک ان مدت؛ ایگزٹ چارجز کے ساتھ 2. زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری اور منافع پر کیپ 	1. کوئی سرمایہ کاری کا انتخاب نہیں	<ol style="list-style-type: none"> 1. 5 سال کی کم از کم لاک ان مدت؛ ایگزٹ چارجز کے ساتھ 	

پینشن کا فائدہ

یاد رکھیں، 60 تک پہنچنے کے بعد کسی کے 20 سال سے زیادہ زندہ رہنے کی امید ہے۔ دوسری طرف، ایک باقاعدہ ریٹائرمنٹ آمدنی، زیادہ پیش قیاسی ہوتی ہے اور ماہانہ بجٹ کو زیادہ آسانی سے منظم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ملازمت کے سالوں کے دوران باقاعدگی سے بے چیک کی قریب سے نقل کرتی ہے۔

یکمشت ادائیگی پر پینشن کے فوائد کو سمجھنے کے لیے نیچے دیے گئے موازنہ پر ایک نظر ڈالیں۔

جب آپ ریٹائر ہو جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا فنڈ جمع کر لیا ہو (یہ ایک بڑی رقم کی طرح لگتا ہے) لیکن آپ پھر بھی مخمضے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ کو اسے یکمشت کے طور پر رکھنا چاہیے یا اسے متواتر ادائیگی میں تبدیل کرنا چاہیے جو آپ کے بے چیک کی جگہ لے لے؟

ایک ایک رقم آپ کو اپنے قرضوں کی ادائیگی، اپنے خاندان پر خرچ کرنے یا چھٹیوں پر جانے میں مدد دے گی۔ تاہم، کئی عالمی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ یکمشت 'ریٹائرمنٹ پانٹ' بہت تیزی سے خالی ہو جاتا ہے، بعض اوقات ریٹائرمنٹ کے صرف پانچ سال بعد ہے۔



یکمشت ادائیگی

پینشن / سالانہ وظیفہ

کوئی باقاعدہ ادائیگی نہیں	باقاعدہ ادائیگیوں کی ضمانت
نکاسی میں زیادہ لچک کی اجازت دیتا ہے لیکن آپ کو زیادہ ذمہ داری کا تقاضہ کرتا ہے	مالی تحفظ کا بہتر احساس دیتا ہے۔
زیادہ خرچ کرنے کے امکانات	اخراجات کا انتظام کرنے کا زیادہ امکان
آپ کو احساس ہونے سے پہلے پیسے ختم ہونے کا بہت زیادہ امکان	آپ اپنی زندگی بھر ضمانت شدہ ادائیگیاں حاصل کرتے ہیں
اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بہت زیادہ تفصیلی مالی معلومات اور مسلسل نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی مستقل آمدنی حاصل کر سکے	آپ کی ریٹائرمنٹ کے دوران بھی بچت کی منصوبہ بندی میں مدد کر سکتا ہے

تو، اب کیا ؟

ہم نے کئی قسم کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا ہے، تاہم، آپ کو دو کو زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے - یعنی نیشنل پینشن سسٹم اور اٹل پینشن یوجنا۔ مجھے یقین ہے، لوگوں کی اکثریت کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم نیشنل پینشن سسٹم اور اٹل پینشن یوجنا کے اگلے باب میں جائیں، میں کچھ احتیاطی تدابیر پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جو آپ سب کو آج سے ہی اٹھانا چاہیے۔

- کسی اجنبی سے اپنے اکاؤنٹ میں رقم وصول کرنے سے اتفاق نہ کریں۔
- کسی کو اپنے فون/کمپیوٹر تک رسائی نہ دیں
- کے وائی سی مسج سے ہوشیار رہیں - صرف اپنے بینک/مالیاتی ادارے کی برانچ سے براہ راست یا ان کی ویب سائٹ پر ڈیل کریں

باقاعدہ پینشن حاصل کرنے اور مالی طور پر صحت مند رہنے کے لیے آگے کی منصوبہ بندی کریں

- اپنے اخراجات پر نظر رکھیں
- کھپت، طرز زندگی اور اخراجات کے لیے قرض لینے سے گریز کریں
- اپنے مالیاتی دستاویزات کو ترتیب سے رکھیں
- نامزد کی تفصیلات کو ہمیشہ اپ ڈیٹ کریں

گھوٹالوں سے ہوشیار رہیں

- کسی بھی مالیاتی معلومات کو اجنبیوں کے ساتھ شیئر نہ کریں۔
- اپنا ڈیٹ کارڈ اور اس کی تفصیلات دوسروں کو نہ دیں
- ڈیجیٹل لین دین میں زیادہ محتاط رہیں

نیشنل پینشن سسٹم اور اٹل پینشن یوجنا لوگوں کی اکثریت کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔



سرمایہ کاری سے پہلے جن اہم عوامل پر غور کیا جانا چاہیے - لاگت، شفافیت، ضوابط اور خدمات کی لیول



یکمشت ادائیگیوں کے مقابلے

پینشن باقاعدہ ادائیگی کی پیشکش کرتی ہے



سبق 4

نیشنل پینشن سسٹم کا جادو

اتنا ہی نہیں ہے! NPS آپ کو سال کے دوران کسی بھی وقت سرمایہ کاری کرنے کی لچک فراہم کرتا ہے۔ یہ آپ کو ٹیکس کٹوتیوں کے اہل بناتا ہے جو کہ نکاسی پر بھی ٹیکس سے موثر ہے۔

ٹھیک ہے، جب پینشن پلاننگ کی بات آتی ہے تو کیا آپ ہمارے سپر اسٹار کے لیے تیار ہیں؟

آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نیشنل پینشن سسٹم (NPS)۔

NPS ایک اسکیم ہے جو آپ کو انفرادی پینشن اکاؤنٹ میں رقم دینے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ آپ کو اپنی کام کی زندگی بھر اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کرنے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اس سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دیتا ہے۔

آئیے اس منفرد پینشن پلان کے فوائد کو مزید گہرائی میں دیکھیں۔

آسان

ایک سادہ عمل کے ذریعے ایک NPS اکاؤنٹ کھولیں اور اپنا مستقل ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ نمبر (PRAN) حاصل کریں۔

آسان رسائی

اپنا NPS اکاؤنٹ e-NPS یا کسی PoPs کے ذریعے شروع کریں اور پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے اپنے اکاؤنٹ میں آن لائن شراکت بھی کریں۔

شراکت میں لچک

NPS آپ کو سال کے دوران کسی بھی وقت کسی بھی رقم میں حصہ ڈالنے کی آزادی کی اجازت دیتا ہے (کم از کم ₹500 فی شراکت؛ کل شراکت فی سال ₹1000 اور اس سے زیادہ ہونی چاہیے)۔

ٹیکس کی کارکردگی

آپ کے تعاون ٹیکس کٹوتیوں کے اہل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے سیکشن 'NPS' کے تحت ٹیکسیشن دیکھیں۔

پائیداری

آپ اپنی باقاعدہ آمدنی کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ NPS کی ادائیگیوں کا ایک باقاعدہ سلسلہ فراہم کرتا ہے (وہ آپ کی منتخب کردہ پینشن کی قسم کے لحاظ سے طے شدہ یا متغیر ہو سکتے ہیں)۔

سرمایہ کاری کی آزادی

NPS آپ کو پینشن کی سرمایہ کاری کے مختلف اختیارات میں سے انتخاب کرنے کی اجازت دیتا ہے، تاکہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی جس طرح چاہیں کر سکیں۔ مزید تفصیلات کے لیے اس باب میں سیکشن "نیشنل پینشن سسٹم کے تحت سرمایہ کاری کے اختیارات" دیکھیں۔

پورٹیبلٹی

ایک بار جب آپ NPS اکاؤنٹ کھولتے ہیں، تو یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہے — چاہے آپ اپنا شہر بدلیں یا نوکری اگر کام کرتے ہیں۔

اچھی طرح سے منظم

NPS کو پینشن فنڈ ریگولیٹری اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی (PFRDA) کے ذریعے منظم کیا جاتا ہے جو کہ شفاف پینشن سرمایہ کاری کے اصول، باقاعدگی سے نگرانی اور NPS ٹرسٹ کے زیر انتظام فنڈز کی کارکردگی کا جائزہ فراہم کرتا ہے۔

کم قیمت

NPS ہندوستان میں سب سے کم لاگت والے پینشن منصوبوں میں سے ایک ہے۔ یہ آپ کو طویل مدتی بچتوں اور سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے ریٹائرمنٹ فنڈ کو بڑھانے کی اجازت دیتا ہے جو آپ کو افراط زر کو مات دینے کے لیے واپسی فراہم کرتا ہے۔





NPS کے تحت سرمایہ کاری کے اختیارات

اب، آئیے NPS کے تحت دستیاب سرمایہ کاری کے اختیارات پر گہری نظر ڈالتے ہیں۔ آپ ایکٹو چوائس، آٹو چوائس یا دیگر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

ایکٹو چوائس کیا ہے؟

اگر آپ ایک فرد ہیں جو سرمایہ کاری کی مارکیٹ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو آپ اس انتخاب کا انتخاب کرنا پسند کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، یہ آپشن آپ کو فعال طور پر یہ فیصلہ کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کی شراکت کو ایکویٹی (E)، کارپوریٹ ڈیبٹ (C)، گورنمنٹ سیکیورٹیز (G) اور متبادل اثاثہ جات (A) کے اثاثہ جات میں کیسے لگایا جائے۔

آٹو چوائس کیا ہے؟

اگر آپ ایک فرد ہیں جو اسے آسان رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے فنڈ مینیجر سے آپ کی سرمایہ کاری کا انتظام کرنا چاہتے ہیں، تو آٹو چوائس آپ کے لیے آپشن ہے۔ یہ آپ کی عمر کی بنیاد پر متحرک طور پر فنڈز مختص کر کے آپ کی سرمایہ کاری کو مختلف اثاثوں کی کلاسوں میں پھیلاتا ہے۔ آٹو چوائس کے اندر دستیاب تین اثاثہ جات کی کلاسیں جارحانہ، اعتدال پسند اور قدامت پسند ہیں۔

اسکیم اور پینشن فنڈ مینیجر کی تبدیلی

سبسکرائبر کے پاس ایک مالی سال میں چار بار آٹو اور ایکٹو اسکیموں کے درمیان سوئچ کرنے کا انتخاب ہوتا ہے۔ پینشن فنڈ مینیجرز کو بھی سال میں ایک بار تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

آئیے ان اثاثوں کی کلاسوں پر تفصیل سے ایک نظر ڈالیں۔

معتدل لائف سائلز

ایکوئیٹی سرمایہ کاری میں 35 سال تک آپ کے کل اثاثوں کا 50% اکسپوزر ہوتا ہے اور یہ آپ کے بوڑھے ہوتے ہی کم ہوتا جاتا ہے۔ ایک نظر ڈالیں۔

ایٹائٹھ کلاس G	ایٹائٹھ کلاس C	ایٹائٹھ کلاس E	عمر (سال میں)
20	30	50	35 سالوں تک
23	29	48	36
26	28	46	37
29	27	44	38
32	26	42	39
35	25	40	40
38	24	38	41
41	23	36	42
44	22	34	43
47	21	32	44
50	20	30	45
53	19	28	46
56	18	26	47
59	17	24	48
62	16	22	49
65	15	20	50
68	14	18	51
71	13	16	52
74	12	14	53
77	11	12	54
8	10	10	55 سال اور اس سے اوپر

ایگریسو لائف سائلز فنڈ

یہ فنڈ آپ کی ایکویٹی سرمایہ کاری کو آپ کے کل اثاثوں کے 75% تک محدود کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے، ایکویٹی انویسٹمنٹ میں آپ کی نمائش بتدریج کم ہوتی جاتی ہے۔ چیک کریں کہ ایگریسو لائف سائلز فنڈ کے تحت آپ کی عمر کے مطابق تین اثاثہ کلاسوں میں آپ کا تعاون کیسے مختص کیا جائے گا۔

ایٹائٹھ کلاس G	ایٹائٹھ کلاس C	ایٹائٹھ کلاس E	عمر (سال میں)
15	10	75	35 سالوں تک
18	11	71	36
21	12	67	37
24	13	63	38
27	14	59	39
30	15	55	40
33	16	51	41
36	17	47	42
39	18	43	43
42	19	39	44
45	20	35	45
48	20	32	46
51	20	29	47
54	20	26	48
57	20	23	49
60	20	20	50
63	18	19	51
66	16	18	52
69	14	17	53
72	12	16	54
75	10	15	55 سال اور اس سے اوپر

سالانہ/پینشن کی خریداری پر NPS کے تحت ٹیکس

- سالانہ کی خریداری کے لیے سرمایہ کاری کی گئی رقم ٹیکس سے پاک ہے۔
- باقاعدہ پینشن/سالانہ آپ کے انفرادی ٹیکس بریکٹ کی بنیاد پر، کسی بھی دوسری آمدنی کی طرح قابل ٹیکس ہے۔

نکاسی یا باہر نکلنے پر NPS کے تحت ٹیکس

- آپ جزوی/بشمث/موت کے واقع ہونے کے لیے ٹیکس فری نکاسی کے حقدار ہیں، ان شرائط کے ساتھ جن کا ذکر پہلے سے نکاسی-باہر نکلنے سیکشن میں کیا گیا ہے۔





کنزرویٹو لائف سائلز فنڈ

یہ فنڈ ایکویٹی میں مختص کو کل اثاثوں کے 25% کی حد تک محدود کرتا ہے جب تک کہ آپ 35 سال کے نہ ہو جائیں اور عمر کے ساتھ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ مثال بہتر وضاحت کرے گی۔

ٹیکس کے فوائد

NPS افراد اور کارپوریٹ ملازمین کو شراکت اور نکاسی یا باہر نکلنے پر مختلف ٹیکس فوائد پیش کرتا ہے۔ میں نے ذیل میں ان پہلوؤں کو پکڑا ہے۔

شراکت پر NPS کے تحت ٹیکس افراد کے لیے ٹیکس فوائد

- آپ سیکشن 80CCD (1A) کے تحت NPS شراکت کے لیے سیکشن 80CCE* کے تحت ₹1.5 لاکھ کی حد کے ساتھ ٹیکس فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔
- NPS (نائر 1 اکاؤنٹ) میں ₹50,000 تک کی سرمایہ کاری کے لیے ایک اضافی کٹوتی خصوصی طور پر سیکشن 80CCD (1B) کے تحت NPS سبسکرائبرز کے لیے دستیاب ہے۔

*سیکشن 80CCE کے تحت، ٹیکس کٹوتیوں کی مجموعی رقم، سیکشن 80C، سیکشن 80CCC اور سیکشن 80CCD کے سب سیکشن (1) کے تحت کسی بھی صورت میں ₹1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی۔

کارپوریٹ ملازمین کے لیے ٹیکس کا فائدہ

کارپوریٹ ملازمین سیکشن 80CCD (2) کے تحت تنخواہ کے 10% تک اپنی شراکت پر اضافی ٹیکس فوائد کا دعویٰ کرنے کے قابل ہیں۔ یہ سیکشن 80CCD (1A) اور 80CCD (1B) کے تحت بیان کردہ حدود سے زیادہ ہے (مکمل حد کے تابع تمام سرمایہ کاری اسکیموں کے لیے ₹7.5 لاکھ)۔

عمر (سال میں)	اثاثہ E کلاس	اثاثہ C کلاس	اثاثہ G کلاس
35 سالوں تک	25	45	30
36	24	43	33
37	23	41	36
38	22	39	39
39	21	37	42
40	20	35	45
41	19	33	48
42	18	31	51
43	17	29	54
44	16	27	57
45	15	25	60
46	14	23	63
47	13	21	66
48	12	19	69
49	11	17	72
50	10	15	75
51	9	13	78
52	8	11	81
53	7	9	84
54	6	7	87
55 سال اور اس سے اوپر	5	5	9

اپنا NPS اکاؤنٹ کیسے کھولیں؟

ٹھیک ہے، اب آپ کا NPS اکاؤنٹ کھولنے کا وقت آگیا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے؟ اس کے بارے میں جاننے کے دو طریقے ہیں۔ آپ اپنا NPS اکاؤنٹ آن لائن یا آف لائن دونوں کھول سکتے ہیں – انتخاب آپ کا ہے۔

آف لائن

PFRDA آپ کی مدد کے لیے پوائنٹ آف پریزنس (POP-SP) اداروں کا تقرر کرتا ہے۔ NPS اکاؤنٹ کھولنے کے فارم POPs سے جمع کیے جا سکتے ہیں اور متعلقہ دستاویزات کے ساتھ انہیں جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ آپ POPs کے ذریعے بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مرکزی، ریاستی یا نجی کمپنی کے ملازم ہیں، تو NPS اندراج کے لیے اپنے HR ڈیپارٹمنٹ سے رجوع کریں۔ زیادہ تر PoPs اب آپ کو اکاؤنٹ کھولنے کا آن لائن آپشن دیتے ہیں۔



آن لائن

آپ کا NPS اکاؤنٹ eNPS پلیٹ فارم www.npstrust.org.in/content/open-your-nps-accountonline کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن کھولا جا سکتا ہے۔ یہ تیز اور آسان ہے؛ آپ اپنے بینک اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے تعاون کر سکتے ہیں۔

باہر نکلنا (60 سال / ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے پہلے)



قبل از وقت باہر نکلنے کی صورت میں، آپ کے جمع شدہ فنڈ کا کم از کم 80% باقاعدہ پینشن فراہم کرنے کے لیے انوی خریداری کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے۔ بقیہ 20% کو یکمشت کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔

NPS کے تحت اکاؤنٹ کھولنے کے کم از کم 5 سال مکمل ہونے پر اجازت دی جاتی ہے۔ اگر جمع ₹2.5 لاکھ سے کم ہے، تو اسے ریٹائرمنٹ پر یکمشت ادا کیا جائے گا۔

ڈیفرمنٹ آپشن

قبل از وقت اخراج کی صورت میں، آپ کو اپنی پینشن موخر کرنے یا یکمشت رقم نکالنے کا اختیار نہیں ملتا ہے۔

نکاسی / باہر نکلنا

NPS کے بہت سے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آپ کو ذاتی ضروریات سے نمٹنے کے لیے اپنے فنڈز تک رسائی کی اجازت دیتا ہے۔
آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے؟

نکاسی

آپ NPS سے مکمل طور پر باہر نکل سکتے ہیں اور درج ذیل حالات میں اپنی رکنیت ختم کر سکتے ہیں۔

ریٹائرمنٹ پر



باہر نکلیں (60 سال بعد شمولیت) 3 سال مکمل ہونے سے پہلے

- سالانہ وظیفہ = کم از کم 80%
- یکمشت نکاسی = زیادہ سے زیادہ 20%
- اگر کارپس ₹2.5 لاکھ سے کم ہے تو مکمل واپسی کی اجازت ہے۔

3 سال مکمل ہونے پر اور 75 سال کی عمر تک

- سالانہ وظیفہ = کم از کم 40%
- یکمشت نکاسی = زیادہ سے زیادہ 60%
- اگر کارپس ₹5 لاکھ سے کم ہے تو مکمل واپسی کی اجازت ہے۔

کسی بھی وجہ سے موت

- نامزد شخص یکمشت میں پینشن کا 100% نکال سکتا ہے۔
- نامزد شخص کارپس کا استعمال کرتے ہوئے اکیویٹی خریدنے کا انتخاب بھی کر سکتا ہے۔

التوا کا اختیار

ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ اپنی پینشن اور یکمشت رقم نکالنے کو 75 سال تک موخر کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔



جب آپ 60 سال کے ہو جاتے ہیں، تو آپ یکمشت 60% تک نکال سکتے ہیں اور بقیہ 40% (لازمی سالانہ وظیفہ) کو باقاعدہ پینشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

باہر نکلیں (18-60 میں شامل ہونا) 60 سال سے پہلے یا ریٹائرمنٹ (5 سال کی تکمیل سے مشروط)

- سالانہ وظیفہ = کم از کم 80%
- یکمشت نکاسی = زیادہ سے زیادہ 20%
- اگر کارپس ₹2.5 لاکھ سے کم ہے تو مکمل واپسی کی اجازت ہے۔

60 سال اور 75 سال کی عمر تک پہنچنے پر

- سالانہ وظیفہ = کم از کم 40%
- یکمشت نکاسی = زیادہ سے زیادہ 60%
- اگر کارپس ₹5 لاکھ سے کم ہے تو مکمل واپسی کی اجازت ہے۔
- 75 سال کی عمر تک جاری رہنے کا اختیار
- 75 سال کی عمر تک یکمشت التوا اور سالانہ قسطوں میں نکاسی کا اختیار۔ سالانہ خریداری 75 سال کی عمر تک ملتی ہے۔

کسی بھی وجہ سے موت

- نامزد شخص یکمشت میں پینشن کا 100% نکال سکتا ہے۔
- نامزد شخص کارپس کا استعمال کرتے ہوئے اکیویٹی خریدنے کا انتخاب بھی کر سکتا ہے۔



جزوی نکاسی

یہاں درج حالات کے تحت آپ کی رکنیت
کی مدت کے دوران تین بار جزوی
نکاسی ممکن ہے۔



اپنے نام پر
مکان خریدنا یا
تعمیر کرنا



بچوں کی اعلیٰ
تعلیم یا ان کی
شادی



NPS کی رکنیت
کے کم از کم 3 سال
کی تکمیل



آپ اور آپ کے پیاروں
کے لیے ہسپتال کی
ضرورت



بر واپسی آپ کی
اپنی شراکت کے
25% سے زیادہ نہ ہو



75% سے زیادہ
معذوری



کسی مخصوص
بیماری کا علاج



بئر کی نشوونما / دوبارہ
بئر مندی یا کوئی اور خود
ترقی کی سرگرمیاں



آپ کے اپنے وینچر یا
کسی بھی اسٹارٹ اپ
کا قیام



بس اتنا دھیان میں رکھیں، آپ کے سبسکرپشن کی مدت کے دوران اوقات زیادہ سے زیادہ تین بار نکاسی
کی اجازت ہے۔

نامزدگی کرنا

کہو، آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہت پیسہ لگایا ہے۔ آپ کے خیال میں ریٹائرمنٹ سے پہلے یا بعد میں کسی بدقسمت انتقال کی صورت میں پینشن کی اس جمع شدہ دولت کا کیا ہوگا؟ پریشان نہ ہوں، NPS آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ کی رقم وصول کرنے کے لیے نامزد افراد کو نام دینے کی بھی اجازت دیتا ہے۔

یہاں ہے کہ آپ اپنے نامزد افراد کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں۔

01 تین نامزد افراد تک کا انتخاب کریں۔
نابالغ کی تقرری کے لیے تاریخ پیدائش اور سرپرست کی تفصیلات درکار ہیں۔

02 POP کو درخواست فارم بھیج کر نامزد کریں یا eNPS کے ذریعے رجسٹر ہونے پر آن لائن جمع کرائیں۔ نامزد کی تفصیلات بعد میں آن لائن تبدیل کی جا سکتی ہیں۔

موبائل ایپ اور آن لائن خدمات

میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ غالب لگ سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ زندگی کو آسان بنانے کے لیے NPS ایک صارف دوست موبائل ایپ بھی پیش کرتا ہے۔

NPS موبائل ایپ کے فوائد



*ٹائر 1 آپ کی پینشن کی بچت کے لیے ہے؛ ٹیکس کے فوائد کے ساتھ
** ٹائر 11 آپ کی اضافی سرمایہ کاری کی بچت کے لیے ہے اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں؛ نکاسی پر کوئی پابندی نہیں (ٹیکس مراعات صرف سرکاری ملازمین کے لیے لاگو ہے)



آئیے اب NPS آن لائن خدمات کے فوائد پر غور کرتے ہیں، یا تو اپنی سینٹرل ریکارڈ کیپنگ ایجنسی (CRA) کے ویب سائٹ پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے اگر eNPS کے ذریعے رجسٹر ہو یا POP کے ذریعے رجسٹرڈ ہو تو POP کے ویب سائٹ پورٹل کا استعمال کریں۔

اپنی منصوبہ بندی کی ترجیح میں تبدیلیاں کریں۔ 

اپنے ٹائر 1 اور ٹائر 2 اکاؤنٹس میں ابتدائی اور بعد میں حصہ ڈالیں۔ 

اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات/ لین دین کا بیان دیکھیں۔ 

آن لائن خدمات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ٹائر 2 اکاؤنٹ سے رقم نکالنے کی درخواست کریں۔ 

اپنا پینشن اکاؤنٹ NPS کے تحت کھولیں (ٹائر 1 اور ٹائر 2 دونوں) 

اپنا NPS اکاؤنٹ آن لائن کھولنے کے لیے یہاں کلک کریں Fenps.nsdl.com/eNPS/OnlineSubscriberRegistration.html?appType=main 

اپنی ذاتی تفصیلات جیسے کہ ای میل آئی ڈی اور موبائل نمبر کو اپ ڈیٹ کریں۔ 

سنٹرل ریکارڈ کیپنگ ایجنسی (CRA)

NPS ان تمام فوائد کے ساتھ واقعی ایک عجوبہ ہے۔ یہ آپ کو کئی طریقوں سے شکایات/شکایات اٹھانے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ ایک نظر ڈالیں۔

اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ NPS میں اپنی سرمایہ کاری کی کارکردگی کو کیسے چیک کیا جائے، تو آپ اپنے PRAN Kit کے ساتھ فراہم کردہ لاگ ان آئی ڈی اور پاس ورڈ کا استعمال کر کے اپنے NPS اکاؤنٹ میں لاگ ان کر کے ایسا کر سکتے ہیں۔




جسمانی فارم CRA کو بھیجے گئے۔

سنٹرل گریونس مینجمنٹ سسٹم (CGMS) کے CRA کو فارورڈ کرنے کے لیے POP سروس فراہم کرنے والوں کو ایک مقررہ فارمیٹ میں اپنی شکایت جمع کروائیں۔


ویب پر مبنی انٹرفیس

CRA کال سینٹر پر ٹیلی اسٹفسار ذاتی شناختی نمبر (T-PIN) کا استعمال کرتے ہوئے ٹول فری نمبر (022) 24993499 کے ساتھ اپنی شکایات/شکایات درج کریں۔ آپ اپنا انٹرنیٹ ذاتی شناختی نمبر (I-PIN) استعمال کر کے بھی رجسٹر کر سکتے ہیں۔ www.npscra.nsdl.co.in پر جا کر۔



کال سینٹر/انٹرایکٹو وائس رسپانس سسٹم (IVR)

PFRDA کال سینٹر سے ٹول فری نمبر 1800-110-708 پر رابطہ کریں۔



شکایت خانہ

CRA پورٹیبلٹی: CRAs کے درمیان آسانی سے سوئیچ کریں، اگر ضرورت ہو، یا تو سبسکرپشن کی قسم میں تبدیلی کی وجہ سے، جو کہ آل سیٹرز سے کارپوریٹ ماڈل تک ہے اور اس کے برعکس۔

سالانہ وظیفہ

کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اپنی بچتوں کو سالانہ بنا کر، آپ ان کا تبادلہ متواتر ادائیگیوں کے لیے کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی تک جاری رہے گی۔

میں نے ایک دو بار اس لفظ کا ذکر کیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔

سالانہ ایسی مصنوعات ہیں جو ایک یکمشت کے عوض مستقبل کے عرصے میں باقاعدہ ادائیگیاں فراہم

مختلف فوائد کے ساتھ سالانہ وظیفہ کی کئی اقسام ہیں۔

- 01 **یکساں شرح پر زندگی بھر کے لیے قابل ادائیگی سالانہ وظیفہ / پینشن۔**
- 02 **سالانہ وظیفہ 5، 10، 15 یا 20 سال کے لیے قابل ادائیگی یقینی ہے اور اس کے بعد جب تک سالانہ وظیفہ کنندہ زندہ ہے۔**
- 03 **سالانہ وظیفہ کنندہ کی موت پر قیمت خرید کی واپسی کے ساتھ زندگی کے لیے سالانہ وظیفہ۔**
- 04 **زندگی کے لیے قابل ادائیگی سالانہ وظیفہ 3% فی سال کی سادہ شرح سے بڑھ جاتی ہے۔**
- 05 **آپ کی موت کے بعد شریک حیات کو ان کی زندگی کے دوران قابل ادائیگی سالانہ وظیفہ کا 50% فراہم کرنا**
- 06 **آپ کی موت کے بعد شریک حیات کو ان کی زندگی کے دوران قابل ادائیگی سالانہ کا 100% فراہم کرنا۔**
- 07 **شریک حیات کو ان کی زندگی کے دوران قابل ادائیگی 100% سالانہ وظیفہ کی فراہمی؛ خریداری کی قیمت آخری زندہ بچ جانے والے کی موت پر واپس کردی جاتی ہے۔**





منی رام متر

دو NPS سرمایہ کاری کے اختیارات ہیں جن میں سے آپ انتخاب کر سکتے ہیں — ایکٹو
چوائس اور آٹو چوائس۔



NPS افراد اور کارپوریٹ ملازمین کے لیے متعدد ٹیکس فوائد پیش کرتا ہے۔



NPS میں ایک سالانہ آپ کے ریٹائرمنٹ فنڈ میں سرمایہ کاری کی ایک قسم ہے جو
ایک مقررہ وقت یا زندگی کے لیے باقاعدہ ادائیگی کی پیشکش
کرتی ہے۔



سبق 05

اٹل پینشن یوجنا کی طاقت

اٹل پینشن یوجنا کے فراہم کردہ فوائد اور اس سے لوگوں کی زندگی میں فرق کے ساتھ، ریٹائرمنٹ کی زندگی امن اور خوشی بھر سکتی ہے۔

اس کو چیک کریں۔

کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے غیر منظم سیکٹر میں کام کرنے والے بہت سے لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ ان کے لیے بھی پینشن پلان موجود ہے؟

یہ اگلا سپر اسٹار ہے جس کے بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں - اور وہ ہے اٹل پینشن یوجنا (APY)۔

APY حکومت کے زیر اہتمام ایک منصوبہ ہے جو ماہانہ پینشن کی ضمانت فراہم کرتا ہے



اسکیم کے تحت دستیاب ماہانہ پینشن سلیب ₹1000، ₹2000، ₹3000، 4000 یا 5000 ₹ ہیں۔

1000 2000 3000

شراکتیں پینشن کی منتخب رقم اور اسکیم میں شامل ہونے کے وقت سبسکرائب کی عمر پر مبنی ہوتی ہیں۔



اس کا مقصد کسی کو اور ہر کسی کو باقاعدہ پینشن کی فراہمی کے ساتھ، ماہانہ پینشن فراہم کرنا اور اخراجات کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرنا ہے۔



اگر آپ کی عمر 18 سے 40 سال کے درمیان ہے، تو آپ APY میں شامل ہو سکتے ہیں۔ جتنی جلدی آپ شروعات کریں گے، آپ کی ریٹائرمنٹ اتنی ہی پرسکون ہوگی۔





بالکل NPS کی طرح، آپ اپنا APY اکاؤنٹ کھولنے کے بارے میں دو طریقے اختیار کر سکتے ہیں - آف لائن اور آن لائن۔

1. آف لائن

• اس بینک میں جائیں جس میں آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہے۔

• اٹل پینشن یوجنا درخواست فارم جمع کروائیں اور KYC کا عمل مکمل کریں۔

• اپنے آدھار کارڈ جیسے مفید دستاویزات کو ہاتھ میں رکھیں

2. آن لائن

آپ کے بینک کی نیٹ بینکنگ کی سہولت آپ کو جلدی اور آسانی سے اٹل پینشن یوجنا (APY) اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت دیتی ہے۔ اپنا APY اکاؤنٹ آن لائن رجسٹر کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔
enps.nsdl.com/eNPS/ApySubRegistration.html

میں آپ کو جلدی بتاتا ہوں کہ آپ کا APY اکاؤنٹ کیسے چلایا جائے۔

• آپ بینک کے ساتھ آٹو ڈیبٹ کی سہولت قائم کر کے اپنے APY اکاؤنٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔

• لیٹ فیس کی ادائیگی سے بچنے کے لیے مقررہ تاریخوں پر اپنے سیونگ اکاؤنٹ میں بیلنس برقرار رکھیں

• آپ ہر سال اپریل میں جمع ہونے والے مرحلے میں اپنی پینشن کی رقم کو بڑھانے یا کم کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔

• آپ کو اپنی ضمانت شدہ ماہانہ پینشن کے لیے 60 سال کی عمر میں درخواست جمع کروانے کی ضرورت ہے۔

• آپ کی 60 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پلان کو منسوخ کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے موت یا شدید بیماری کے۔

3. eAPY

اس سے POP-SPs کو بھی فائدہ ہوتا ہے

PFRDA نے اب آپ کا APY اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ایک ڈیجیٹل موڈ متعارف کرایا ہے۔ eAPY کے ذریعے صارفین کو حاصل ہونے والے مختلف فوائد پر ایک نظر ڈالیں۔

• مکمل طور پر ڈیجیٹل حل

• آپ کے گھر/دفتر کے آرام سے 7/24 اندراج؛ بینک کی برانچوں میں جانے کی ضرورت نہیں۔

• کوئی جسمانی درخواست فارم جمع نہیں کرانا

• وقت، محنت اور لاگت کی بچت کریں۔

• سورشنگ کا اضافی موڈ

• کوئی دستی مداخلت نہیں - ڈیٹا فلو الیکٹرانک شکل میں ہے۔

• جغرافیہ کے سبسکرائبرز تک پہنچنے کی صلاحیت کے ساتھ رسائی میں اضافہ

• کم وقت اور محنت

• فارم کے فزیکل اسٹوریج کی ضرورت نہیں ہے۔

• مزید اندراج کی سہولت کے لیے لیڈ جنریشن ماڈیول

یہاں کا جدول ظاہر کرتا ہے کہ عمر، شمولیت کے وقت، اور ماہانہ تعاون کی رقم کے لحاظ سے APY اکاؤنٹ کیسے کام کرتا ہے۔

₹ 5,000	₹ 4,000	₹ 3,000	₹ 2,000	₹ 1,000	متوقع ماہانہ پینشن	
₹ 8.5 لاکھ	₹ 6.8 لاکھ	₹ 5.1 لاکھ	₹ 3.4 لاکھ	₹ 1.7 لاکھ	نامزد کو کارپس کی واپسی	
اشاری ماہانہ تعاون (میں ₹)	شراکت کے سال	شمولیت کی عمر (سالوں میں)				
210	168	126	84	42	42	18
228	183	138	92	46	41	19
248	198	150	100	50	40	20
269	215	162	108	54	39	21
292	234	177	117	59	38	22
318	254	192	127	64	37	23
346	277	208	139	70	36	24
376	301	226	151	76	35	25
409	327	246	164	82	34	26
446	356	268	178	90	33	27
485	388	292	194	97	32	28
529	423	318	212	106	31	29
577	462	347	231	116	30	30
630	504	379	252	126	29	31
689	551	414	276	138	28	32
752	602	453	302	151	27	33
824	659	495	330	165	26	34

902	722	543	362	181	25	35
990	792	594	396	198	24	36
1087	870	654	436	218	23	37
1196	957	720	480	240	22	38
1318	1054	792	528	264	21	39
1454	1164	873	582	291	20	40

میرا خیال ہے کہ آپ APY کی طاقت کے بارے میں پہلے ہی قائل ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو مزید تفصیلات دینا چاہوں گا۔ معلومات طاقت ہے، لہذا اپنے آپ کو اس سے زیادہ سے لیس کرنا ہمیشہ اچھا ہے۔

1. سبسکرائبر کی موت پر



- موت کے بعد، آپ کی پینشن کا 100% آپ کے شریک حیات کو ادا کیا جائے گا۔ آپ کے شریک حیات کی موت کے بعد، اس پینشن کی فراہمی کے لیے سالانہ خریداری کے لیے استعمال ہونے والی رقم آپ کے نامزد افراد کو جائے گی۔
- آپ کے شریک حیات کے پاس APY اکاؤنٹ کو برقرار رکھنے یا اسے بند کرنے اور آپ کی طرف سے دے گئے تعاون کے ساتھ ساتھ حاصل کردہ کوئی بھی فائدہ حاصل کرنے کا اختیار ہے۔

2. ریٹائرمنٹ کے فوائد



- اٹل پینشن یوجنا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد قابل ادائیگی ماہانہ پینشن کی حکومت کی طرف سے ضمانت دی گئی ہے۔ ماہانہ پینشن اس رقم پر منحصر ہے جو آپ نے دی ہے۔

3. ٹیکس فوائد



- سیکشن 80C سی ڈی کے تحت کی گئی شراکت کے لیے ٹیکس کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔

منی رام متر

اٹل پینشن یوجنا حکومت کی طرف سے گارنٹی شدہ پینشن فراہم کرتا ہے اس پر منحصر ہے کہ آپ کتنا حصہ ڈالتے ہیں اور پینشن کی رقم کا انتخاب کیا جاتا ہے۔



اٹل پینشن یوجنا اسکیم میں شامل ہوں اگر آپ کی عمر 18-40 سال کے درمیان ہے۔



اٹل پینشن یوجنا تین ضمانتی فوائد پیش کرتا ہے۔



بعد کا لفظ

حاصل کریں۔ جب آپ کی ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی کی بات آتی ہے تو NPS اور APY آپ کے دو قابل اعتماد دوست ہیں۔ آپ اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کو یقینی بنانے کے لیے مختلف پینشن پلانز میں سے انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ چلئے اب شروع کریں۔ میرے جانے سے پہلے، ایک یاد دہانی کہ آپ مجھ سے ہمیشہ 03-26517501-011 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ کتاب پڑھ کر لطف اٹھایا ہوگا۔ میں یہ سوچنا چاہوں گا کہ یہ جامع اور پرکشش ہے، اور یہ کہ اس نے آپ کو وہ تمام معلومات فراہم کی ہیں جن کی آپ کو ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی، مستقبل کے لیے بچت، APY، NPS اور ان کے پیش کردہ بہت سے فوائد کے بارے میں ضرورت ہے۔

ایک الگ سوچ کے طور پر، میں آپ کو آپ کی ریٹائرمنٹ کے لیے منصوبہ بندی کی اہمیت کے بارے میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کتنے ہی جوان یا بوڑھے ہیں، جلد شروع کریں اور بعد میں فوائد



یاد رکھیں، محض اپنی ملازمت سے ریٹائر نہ ہوں، اپنی ریٹائرمنٹ کا منصوبہ بنائیں۔

NPS اور APY جیسی اسکیموں سے فوائد حاصل کریں۔

NPS/PFRDA، PFRDA سے فنڈز کے اجراء کے لیے رقم جمع کرنے کی درخواست کرنے والے افراد کو کبھی کال نہیں کرتا ہے۔ دھوکہ دہی کے لیے موصول ہونے والی ایسی کوئی بھی اطلاع فوری طور پر پولیس کو دی جا سکتی ہے۔

A

اثاثہ (جائداد)

A کوئی بھی وسیلہ جو اس کے مالک کے لیے معاشی قدر رکھتا ہے۔ یہ نقد، انویسٹمنٹ، سیکورٹیز، یا ریئل اسٹیٹ کی شکل میں ہو سکتا ہے۔

سالانہ وظیفہ

یہ ایک معاہدہ ہے جو ایک انشورنس کمپنی کے ذریعہ کسی صارف کو سالانہ ادائیگی کے وقت منتخب کردہ مدت کے لیے باقاعدگی سے ادائیگی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔

اثاثہ مختص

مختلف اثاثوں کے زمروں میں سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کی تقسیم

سالانہ وظیفہ خوار

وہ شخص جو سالانہ وظیفہ حاصل کرتا ہے۔

اٹل پینشن یوجنا

اٹل پینشن یوجنا (APY) ایک باقاعدہ شراکت پر مبنی پینشن منصوبہ ہے جو ₹1,000 / ₹2000 / ₹3000 / ₹4000 / ₹5000 کی ضمانت شدہ پینشن کا وعدہ کرتا ہے۔ پینشن 60 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے۔

B

بانڈ

بانڈ ایک قرض کا آلہ ہے جس میں ایک سرمایہ کار کسی ایسے ادارے کو رقم قرض دیتا ہے جو متغیر یا مقررہ شرح سود پر مقررہ مدت کے لیے فنڈ لیتا ہے۔

C

کارپس (جسم)

تمام سرمایہ کاروں کے ذریعہ کسی خاص اسکیم میں سرمایہ کردہ کل رقم

مرکب

کماٹی پیدا کرنے کے لیے کسی اثاثے کی قابلیت جسے پھر مزید آمدنی پیدا کرنے کے لیے دوبارہ سرمایہ کاری کی جاتی ہے

E

اکویٹی

ریئل اسٹیٹ اور عام اسٹاک اکویٹی کی مثالیں ہیں جہاں سرمایہ کاروں کو ملکیت کا ایک خاص حصہ ملتا ہے۔

H

ہیلتھ انشورنس (صحت کا بیمہ)

ایک معاہدہ جہاں انشورنس کمپنی میڈیکل اخراجات کے لیے میڈیکل کوریج فراہم کرتی ہے۔

I

مہنگائی

سامان اور خدمات کی قیمتوں میں عام اضافے کی وجہ سے قوت خرید کا نقصان

L

ایکمشٹ

ایک ہی ادائیگی میں مالیاتی منصوبے کے تحت جمع شدہ فوائد کی تقسیم

لائف سائیکل فنڈ (دورانہ حیات فنڈ)

ایک میوچل فنڈ جو سرمایہ کار کی متوقع ریٹائرمنٹ کی عمر کی بنیاد پر اثاثہ مختصی کو برقرار رکھتا ہے

قرض

کسی مالیاتی ادارے/شخص سے ادھار لی گئی رقم جس کی واپسی سود کے ساتھ متوقع ہے

M

مارکیٹ سے منسلک سرمایہ کاری

وہ قرض کی ضمانتیں یا بانڈز ہیں جن کی واپسی کسی دوسرے اثاثے کی کارکردگی سے منسلک ہوتی ہے

N

نیشنل پینشن سسٹم (قومی پینشن سسٹم)

نیشنل پینشن سسٹم (NPS) ایک ریٹائرمنٹ سیونگ پروگرام ہے جو ہر ایک کو ریٹائرمنٹ کی مناسب آمدنی فراہم کرتا ہے۔ یہ لوگوں کو مستقبل کے لیے پیسے محفوظ کرنے میں مدد کرتا ہے

P

پوائنٹ آف پریزنس (موجودگی کا پوائنٹ)

پوائنٹ آف پریزنس تقسیم چینلز ہے جو NPS کے تحت سبسکرائبرز/ممکنہ سبسکرائبرز کو اپنی شاخوں کے نیٹ ورک کے ذریعے خدمات فراہم کرتے ہیں جسے POP سروس پرووائڈرز کہتے ہیں

پینشن (وظیفہ)

ریٹائرمنٹ کے بعد کسی شخص کو ریاست یا سابق آجر کی طرف سے یا قاعدگی سے ادا کی جانے والی رقم

ادائیگی

کسی کو معاوضہ یا منافع کے طور پر ادا کی جانے والی ایک بڑی رقم

جزوی نکاسی

کسی فنڈ کا کوئی بھی حصہ جو پالیسی ہولڈر کی طرف سے پالیسی کی مدت کے دوران نقد/واپس لے لیا جاتا ہے

R

ریگولٹری باڈی

ایک عوامی تنظیم یا سرکاری ایجنسی جو قانونی طور پر انسانی سرگرمیوں کے پہلوؤں کو نظر انداز کرنے کی ذمہ دار ہے

سرمایہ کاری پر منافع

سرمایہ کاری پر منافع (ROI) ایک میٹرک ہے جو کسی سرمایہ کاری کے منافع یا کارکردگی کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے

خطرات

امکان یہ ہے کہ مالیاتی آلے کی شرح منافع مختلف ہو گی اور نقصانات سے مشروط ہو سکتی ہے

S

S2 فارم

یہ فارم سبسکرائبرز کی ذاتی تفصیلات، نامزدگی کی تفصیلات، ٹی پی /آئی پی کو دوبارہ جاری کرنے، یا PRAN کارڈ کو دوبارہ جاری کرنے کے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے

سروس پرووائڈر

ایک کمپنی یا فرم جو ریکارڈ کیپنگ، پلان ایجوکیشن، اور مالیاتی منصوبہ بندی کی انتظامیہ کی شکل میں خدمات فراہم کرتی ہے

پیرانہ سالی

وہ رقم جو لوگ کام کرتے ہوئے فنڈ میں ادا کرتے ہیں تاکہ جب وہ اپنے بڑھاپے میں کام کرنا چھوڑ دیں تو انہیں ادائیگی ملے گی

T

ٹائر-1 NPS اکاؤنٹ

NPS اکاؤنٹ کی سب سے بنیادی شکل۔ سرمایہ کار ان اکاؤنٹوں میں سالانہ سب سے کم ₹1,000 تک سرمایہ کاری کر سکتے ہیں

ٹیکس سے فوائد

ٹیکس کی رقم میں کمی جو کسی شخص یا تنظیم کو عام طور پر کسی خاص صورتحال میں ادا کرنا پڑتی ہے۔


V

مالیت (تخمینہ)

مالیت ایک ایسا حساب ہے جو کسی اثاثے کی موجودہ مالیت کی پیمائش کرتا ہے۔



یہ ایکشن کا وقت ہے۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے یا کوئی سوال ہے تو، بس ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارے رابطے کی تفصیلات اوپر شیئر کی گئی ہیں۔



نیشنل پینشن سسٹم

اپنا NPS اکاؤنٹ آن لائن کھولیں
www.npstrust.org.in/content/open-your-nps-account-online

NPS یا اپنے قریبی POP-SP (ڈسٹری بیوٹر) کے بارے میں مزید جاننے کے لیے، ہمارے ٹول فری نمبر 1800222080 پر کال کریں، NPS کو 56677 پر SMS کریں یا ملاحظہ کریں:
www.pfrda.org.in

اٹل پینشن یوجنا

آن لائن APY سبسکرائبر رجسٹریشن
enps.nsdl.com/eNPS/ApySubRegistration.html

اگر آپ کی عمر 18 سے 40 سال کے درمیان ہے تو آپ اٹل پینشن یوجنا میں شامل ہو سکتے ہیں۔
اپنے قریبی بینک/پوسٹ آفس برانچ سے رابطہ کریں،
18008891030 (ٹول فری) پر کال کریں یا آج ہی
www.pfrda.org.in پر جائیں۔

PFRDA، فنانشل لٹریسی اینڈ ٹریننگ ڈیپارٹمنٹ

"In case of any ambiguity in understanding the context of the words written in this booklet, the English version of the same will prevail"

"اس کتابچے میں مذکورہ الفاظ کے سیاق و سباق کو سمجھنے میں کسی غموض کی صورت میں، اس کا انگریزی ورژن ہی غالب رہے گا"